


برم الده الرحم الرسم

ج- بخورد چار مدل




مسئلہ ۱: ۵ kN/cm تک فشار اس درزیاں ۴ kN/cm بی باروں کی

مسئلہ ۲: ۵ kN/cm تک فشار اس $\frac{5}{6}$ بدون تئی وسائی

مسئلہ ۳: از $\frac{5}{6}$ تا $\frac{1}{2}$ تک فشار اس درزیاں $\frac{5}{6}$ بی باروں سے

مسئلہ ۴: از $\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$ تک فشار اس درزیاں $\frac{3}{4}$ بی باروں سے

۱- برخوردیم کور دوبله با جنس های متفاوت و سطح مقطع ناسار (۱)



$$A_1 S_1 = A_2 S_2 \quad (a)$$

$$A_1 \rho_1 C_1 (-v_f - (-v_1)) = A_2 \rho_2 C_2 (v_f - v_2) \quad (b)$$

$$\rightarrow v_f = \frac{v_2 + \frac{A_1 \rho_1 C_1}{A_2 \rho_2 C_2} v_1}{1 + \frac{A_1 \rho_1 C_1}{A_2 \rho_2 C_2}} \quad (1-26)$$

$$S_1 = \frac{\rho_1 C_1 v_1}{1 + \frac{A_1 \rho_1 C_1}{A_2 \rho_2 C_2}} \left[1 - \frac{v_2}{v_1} \right] \quad (1-27)$$


در حالات خاص آرگونومی می‌شود: $\frac{A_1}{A_2} = \rho C_1 = \rho_2 C_2$ و

$$V_f = \frac{V_2 + \mu V_1}{1 + \mu}$$

در این حالت برابر است: $V_f = -\mu V_1$

مکانی

۱-۱۹ - استال تنسی محوری در میله‌های که دارای ناسیستی در طبع مقطع داشته و با سلسله معادی بازی



: موج تنسی در دری بدل

: موج تنسی عبور کرده از میله

: موج تنسی منعکس شده از میله

الف - دری سطح مقلم AB نزدیک از دو مقطع S₁, S₂ همواره برابر هست.

ب - سرعه ذرات در مقطع AB در دو مقطع S₁, S₂ برابر باشند.
فرض کنید σ_T در متری باشد.

$$\xrightarrow{\text{الف}} A_1(\sigma_I + \sigma_R) = A_2 \sigma_T \quad (a)$$

$$\xrightarrow{\text{ب)} } \sigma_R = f_1 C_1, \Delta v_R = f_1 C_1 (-v_T - (-v_I)) \\ = f_1 C_1 (v_I - v_T) \quad (b)$$

$$\frac{\sigma_I}{f_1 C_1} - \frac{\sigma_R}{f_1 C_1} = \frac{\sigma_T}{f_2 C_2} \quad (c)$$

$$\rightarrow \sigma_T = \frac{2 A_1 f_2 C_2}{A_2 f_2 C_2 + A_1 f_1 C_1} \sigma_I \quad (1-28)$$

$$\sigma_R = \frac{A_2 f_2 C_2 - A_1 f_1 C_1}{A_2 f_2 C_2 + A_1 f_1 C_1} \sigma_I \quad (1-29)$$

اگر دو مسمی از زیر حسین باشند:

$$\sigma_T = \frac{2A_1}{A_1 + A_2} \sigma_I \quad , \quad \sigma_R = \frac{A_2 - A_1}{A_2 + A_1} \sigma_I \quad (1-30)$$

$$A_2 > A_1 \longrightarrow \sigma_R, \sigma_I \text{ هم علاس متسنہ (ماشند کلیہ کارڈار) } \quad , \quad \sigma_T < \sigma_I \quad (d)$$



$$A_2 < A_1 \longrightarrow \sigma_R, \sigma_I \text{ مختلف العلاس متسنہ (ماشند کلیہ کارڈار) } \quad , \quad \sigma_T > \sigma_I \quad (e)$$

$$\frac{A_2}{A_1} \rightarrow \infty \longrightarrow \sigma_R \rightarrow \sigma_I \quad , \quad \sigma_T \rightarrow 0 \quad (f)$$

$$\frac{A_2}{A_1} \rightarrow 0 \longrightarrow \sigma_R \rightarrow -\sigma_I \quad , \quad \sigma_T \rightarrow 2\sigma_I \quad (g)$$

دیہی خود کہ اگر کبھی ملیے ناکہ در انہی کبھی ملیے بزرگ (A₂ < A₁) ترا ردم نتھیں بلکہ کیردار اسی راستے کی رہے (A₂ > A₁) وہ طرفی یا اس بزرگی کی سب در میں کوچھ میں خود.

مثال: مزب بزرگتنه ای را برای دو گل زیر بایبر:



الت:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\sigma_{T_2}}{\sigma_I} = \frac{2A_1}{A_2+A_1} = \frac{2 \times 2}{2+1} = \frac{4}{3} \\ \frac{\sigma_{T_3}}{\sigma_{T_2}} = \frac{2A_2}{A_2+A_3} = \frac{2 \times 2}{2+1} = \frac{4}{3} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\sigma_{T_3}}{\sigma_I} = 1.78$$

ب:

$$\frac{\sigma_{T_3}}{\sigma_I} = \frac{2A_1}{A_1+A_3} = \frac{2 \times 4}{4+1} = 1.6$$

نیں با اتفاق کردن مکمل واط، سدست سی (افزاریں) می باشد (حدود ۱۰٪)

بامراجمہ بر ایجاد (۱-۲۹) سطح صفر میں موجود گردشی $\sigma_R = 0$) این اسے ر

$$A_2 f_2 C_2 = A_1 f_1 C_1 \quad (h)$$

$$\sigma_T = \sigma_I \sqrt{\frac{E_2 f_2}{E_1 f_1}}$$

درایی صورت

$$\text{نام } " \text{ انتلاق اسپاٹس" \ نامیدہ گئو۔} \quad \text{مکان} \rightarrow A_1 f_1 C_1 = A_2 f_2 C_2$$